



جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے پس وہ کنکریوں پر ہاتھ نہ پھیرے

ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے پس وہ کنکریوں پر ہاتھ نہ پھیرے“ مُعْقِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص سے جو ر مرتبہ سجدہ کرتے ہوئے کنکریاں برابر کرتا تھا فرمایا: ”اگر ایسا کرنا ناگزیر ہو تو صرف ایک ہی بار کرو“
[صحیح] [اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے]

ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں درج ذیل باتوں کا بیان ہے: ”جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو یعنی جب وہ نماز شروع کر دے مطلب تکبیر تحریم سے پہلے کنکریاں صاف کرنا ممنوع نہیں ہے“ وہ کنکریوں پر ہاتھ نہ پھیرے یعنی کسی معمولی چیز کی وجہ سے نماز سے روگردانی نہ کرے کیوں کہ اس سے نماز سے توجہ ہٹتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس رحمت سے محروم ہو جاتا ہے جو نماز کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے ملا کرتی ہے اس وقت کے لیے جب ایسا سجدہ کے مقام کو درست کرنے کے لیے نہ کیا جائے وگرنہ بقدر ضرورت ایک دفعہ ایسا کرنے کی اجازت ہے بات معلوم ہے کہ ”حصی“ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں۔ ہاں کنکریوں کا ذکر تغلیبا ہوا ہے کیوں کہ مساجد کے فرش پر عموماً پتی ہوتی ہیں اس مسئلہ میں کنکریوں، مٹی اور ریت کے مابین کوئی فرق نہیں ہے معقیب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ نے اس شخص کے بارے میں بیان فرمایا ہے جو سجدہ میں جاؤ وقت مٹی برابر کرتا تھا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو ایک دفعہ کرلو ”آپ ﷺ نے اس شخص کے بارے میں کہا“ یعنی جس نے آپ ﷺ سے اپنے متعلق پوچھا تھا، کہ وہ جہاں سجدہ کرتا ہے اس جگہ کی مٹی کو برابر کرتا ہے یعنی سجدہ کی جگہ کو برابر کرتا ہے یا اس پر سجدہ کرنے کے لیے اسے برابر کرتا ہے (کہ اس کا کیا حکم ہے؟) آپ ﷺ نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے تو اور تمہیں اس کی ضرورت ہے تو پھر ایک دفعہ کر لیا کرو، ایک سے زیادہ بار نہ کرو چنانچہ کنکریوں کو صاف کرنا مکروہ ہے إلا یہ کہ کنکریوں کی وجہ سے سجدہ کرنا ممکن نہ ہو یعنی یہ بہت زیادہ اوپر نیچے ہوں اور پیشانی اس پر اتنی دیر نہ ٹھہر سکتی ہے جو جس سے فرض پورا ہو سکتا ہے اس صورت میں ایک یا دو دفعہ انہیں برابر کر سکتا ہے کیوں کہ اس سلسلہ میں دو روایات ہیں ایک روایت میں ایک دفعہ برابر کرنے کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں دو بار برابر کرنے کا ذکر ہے دونوں میں سے جو روایت زیادہ صحیح ہے اس کے مطابق ایک ہی دفعہ برابر کرے، اس سے زیادہ دفعہ نہیں ہے ”رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے“ میں نے اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ (نماز میں) اس پر رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے یہ نہی کی علت ہے یعنی کسی عقل مند کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اتنے بیچ کام میں لگ کر اتنی عظیم الشان نعمت کو وصول کرے یہ بات علامہ طیبی رحمہ اللہ سے منقول ہے امام شوکانی رحمہ اللہ کے ہاں ہے کہ یہ علت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کنکریاں صاف کرنے سے ممانعت اس لیے وارد ہے کہ نمازی اپنے دل کو کسی ایسے کام میں مشغول نہ کرے جو اس کی طرف آنے والی اللہ کی رحمت سے غافل کر دے اور یوں وہ اس سے اپنا حصہ پانے سے محروم رہ جائے



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

